

6. AL-AN'AM (TERNAK-TERNAK)

Suet ke-6: 165 ayat

Ngen sebut gen Allah Maho Pengasiak,
Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Kute kujai utuk Allah da sudo menea lenget ngen bumei, menea kulo kelem ngen te-ang, tapi tun-tun kapia nduai Si (sesuatu) ngen tuhan-ne.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۗ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

2. Si ba menea udi kuni pitok sudo-o tentepne ajea (matei-nu) ade kulo ajea da tentau (utuk klongon) da ade neak adap-Ne (Si dewekba da namen) sudo-o udi masiak ragau-ragau (tentang klongon-o).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا
وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۗ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾

3. Dan Si-o ba Allah da ite sembeak baik neak lenget atau neak bumei. Si namen jano da udi munyin-o kulo da udi kemten. Si namen kulo jano da udi lok kemerjo.

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

4. Dan coa ade do ayat kunei ayat-ayat Tuhan sapei ngen si seluyen si terus coa demulai kune-ne (ngike ngen si).

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا
عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

5. Sebenea ne si bik ngike da haq (quran) idong sapei ngen-si mako konyo paset sapei ngen si (bukti kunei) kabar-kabar da terus si gemeak.

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۗ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ
أَنْبُؤُهُمَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾

6. Janokah si coa kemliak kedau tun-tun da bik sudo keme majua ayok si, padahal (tun-tun-o) bik keme tentep plabai-ne neak muko bumei, do-o ba teguak da ati perneak keme melei utukne keme kulo temu-un ujen da lai utukne keme menea sungai-sungai ngalia neak beakne.Sudo-o keme semikso si kerno dusone dewek.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ
فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ ۗ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
فَآهَلَكْنَاهُمْ بِدُونِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

Sudo-o keme menea tun (generasi da luyen).	ءَاخِرِينَ ﴿٦٩﴾
7. Dan amen keme temu-un utuk udi tulisan neak das kertas sudo-o udi dapet megong-ne ngen tangan udi dewek, paset ba tun-tun kapia-o madeak dio coa luyen kunei sihir-ne da keten.	<p>وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾</p>
8. Dan si kulo madeak gentai coa temu-un ngen si (Muhammad) (do Malaikat) amen keme temu-un (ngen si) do Malaikat paset selsei ba urusan-ne sudo-o udi coa nelel waktu (agok didik).	<p>وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٧١﴾</p>
9. Dan amen keme menea rasul-o (kunei) Malaikat paset ba keme menea ulesne awei semanei (amen keme menea si ules semanei) keme kulo lok semayo si tep ragau, awei ragau si yo.	<p>وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿٧٢﴾</p>
10. Dan sung(g)uak bik ade da gemak kedau rasul ayok udi mako tu-un ba utuk tun-tun da gemeak antarone bales (azab) kerno gemeak ne.	<p>وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧٣﴾</p>
11. Kadeak ba paneu ba neak muko bumai sudo-o keliak ba jano kesudo tun-tun da ngike-o.	<p>قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٧٤﴾</p>
12. Kadeak ba api tuan da ade neak lenget gen bumai, kadeak ba gik Allah Si bik tentep ne kasiak sayang Si sebenea ne melung(g)uk udi neak bilai kiyamat. Coa gen ragau madep-Si tun-tun da rugai diraine, si oba coa ade imen.	<p>قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لِيَجْمَعَ كُفْرَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾</p>
13. Dan milik Allah ba kute da ade neak klemen gen keak bilai, Si kulo paling meni-uk ngen paling lebiak namen.	<p>﴿٧٦﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ</p>

الْعَلِيمُ ﴿١٤﴾

14. Kadeak ba janokah uku menea pelindung luyen kune Allah da menea lenget gen bumai Si melei mei ngen coa si nelei mei. Kadeak ba sebenea ne uku neluak buliak uku jijai tun da deno nien semreak dirai (ngen Allah) jibeak nien udi temasuk tun-tun musyrik.

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَخِيذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾

15. Kadeak ba sebeneane uku saben ngen sikso neak bilai kiyamat amen uku melawen Tuhanku.

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ

عَظِيمٍ ﴿١٦﴾

16. Api da neuak kunei sikso kunene bilai-o mako sung(g)uak Allah bik melei rahmat gen si. Do-o ba utung da keten.

مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

17. Amen Allah temipo mudarat gen udi, mako coa ade da dapet empasne seluyen Si dewek, amen Si melei da baik utuk udi mako Si paling kuaso neak jano bae.

وَإِنْ يَمَسُّسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

وَإِنْ يَمَسُّسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾

18. Dan Si ba da kuaso neak kute umat ne, Si kulo da paling adea gen paling lebiak namen.

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٩﴾

19. Kadeak ba api da lebiak kuwet seksaine ? kadeak ba Allah Si ijai seksai antaro uku gen udi, dan quran yo tenu-un gen uku supayo ngen Quran uku melei peringatan gen udi kulo ngen tun-tun da namen Quran, janokah udi sebenea ne makau ade tuhan-tuhan da luyen, seluyen Allah, kadeak ba uku coa makau, kadeak ba sebenane si-o ba Tuhan cuman do, sebeneane coa pa-ok gen awok ku kune jano da udi nduai Si (ngen Allah).

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ

وَمَنْ بَلَغَ أَبْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً

أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ

وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾

20. Tun-tun da bik keme nelel kiteb gen si, si kenal (Muhammad) awi si kemnal anak-anak ne dewek. Tun-tun da merugai awok ne dewek udi-o coa ade imen (ngen Allah).

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

21. Dan api igai da lebiak aniayo kune tun da menea saleak ngeke ngen Allah atau ngike ayat-ayat-Ne, sebenea ne tun-tun da aniayo ko coa dapet utung.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِعَايَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

22. Dan inget ba bialai neak waktaw-o keme melung(g)uk udi kutene sudo-o keme madeak ngen tun musyrik neak ipe udi menyembeak bel-o da nadeak udi (serikat-serikat keme).

وَيَوْمَ نحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ
شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٢﴾

23. Sudo-o coa gen fitnah si, seluyen madeak ngen Allah tuhan keme coa ba keme nduai Allah.

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِينَ ﴿١٣﴾

24. Keliak ba akuak ro si bik ngike gen awokne dewek sudo-o melnyep kunei si sembeak-sembeakne da bel-o si made-made.

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٤﴾

25. Dan neak antarosi ade da temi-uk (mbaco)nu, awok keme bik meletok tutup neak atei-ne (ahirne si coa) namen dan (keme nepek) tutup neak ti-ukne. sekirone si kemliak kute tando (benea) si tep coa lok beimen ngen Si. amen si teko ngen ko utuk melawen ko tun-tun kapia-o madeak quran yo coa luyen kunie crito tun-tun bel-o.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَإِنْ يَرَوْا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
تُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

26. Si temgeak (tun luyen) temi-uk mbaco quran si kulo meu-ak awokne kunei quran, si-o ba majua awokne dewek si dewek coa sadar.

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ ۗ وَإِنْ يُهْلِكُونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾







27. Dan amen ko (Muhammad) kemliak sa'at si madep paok nrako lajau si madeak amen keme belek moi (den-nyo) coa ngike ayat-ayat tuhan keme termasuk ijai tun-tun da beimen (paset udi kemliak kejjai da cengang).
- وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرُدُّ
وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
28. Tapi (sebeneane) bik keten gen si kidekne bel-o slalu si munyin-munyin sekirone si neleak moi den-nyo si paset kemrejo jano da si temgeak bel-o, sebeneane si-o ba ngike niyen.
- بَلْ بَدَأَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا
لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾
29. Dan paset si lok madeak kulo idup iyo ba cuman idup neak den-nyo bae dan ite coa kan mungkin idup konyo igai.
- وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾
30. Dan sekirone udi kemliak sa'at si adep ngen tuhanne paset udi kemliak kejjai da paling sedih, Allah madeak jano niyen (idup igai) dio benea si jemawab niyen benea gen tuhan keme madeak Allah kerno-o keding ba sikso yo kerno udi coa percayo.
- وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا
بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾
31. Padeak kerugai tun-tun da galok ngike bakal temau ngen tuhan sekirone amen qiyamat sapei gen si mendadak si madeak padeak kelai kesal keme kerno coa nginget soal qiyamat-o samo-o si mikut duso neak kedongne kikir ba padeak kidek jano da si mikut-o.
- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا
فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾
32. Dan coa ba idup neak dennyo-yo seluyen kunie main-main gen beragam bae, niyen sade ahirat-o ba lebiak baik utuk tun-tun da takwa, jano coa udi paham.?
- وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾
33. Sebeneane keme namen jano da si madeak-o sedih niyen ateinu (jibeak sedih
- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا

- atei) kerno si sebeneane iso ngike udi, sebeneane tun-tun zalim-o coa pecayo ngen ayat-ayat Allah.
- يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
تَجْحَدُونَ ﴿٣٤﴾
34. Dan sebeneane bik nikene (kulo) rasul-rasul ne ayok udi, tapi si sabar adep da galok ngike kulo semikso (da kenerjone) ngen si, sapie teko petulung keme nge si, coa gen gok agok dikup da dapet mubeak jan(j)ai-jan(j)ai Allah, sebeneane bik sapie gen udi pa-o kunie crito rasul-rasul-o.
- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا
كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنهَم نَصْرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِي
الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾
35. Dan amen si coa duali (ngen ko) asai bet ko meding, mako amen udi dapet menea lubang neak bumai atau ndea moi lenget lajau udi dapet kemten mukjizat gen si, (kenea ba) amen Allah kemlok paset bae Allah nepek si kute neak lem petun(j)uk, kerno-o jibeak ba udi cubo termasuk tun-tun da bodong.
- وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن
تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيهِمْ بِيَائَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى
الْهُدَىٰ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٦﴾
36. Cuman tun-tun da temu-uk bae da patuh (najok Allah) gen tun-tun da matai (atine) kenlongon Allah sudo-o ba ngen Allah si-o neleak.
- * إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَالْمَوْتَىٰ
يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾
37. Dan si-o ba (tun-tun musyrik mekeak) madeak : gentai coa temu-un gen si (Muhammad) ade mukjizat kunie tuhanne, kadeak ba sebeneane Allah kuaso temu-un mukjizat, tapi dau tun coa namen.
- وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءآيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِن
اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءآيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
38. Dan coa ade igai bnatang-bnatang da ade neak bumai ngen burung-burung da tebang ngen dua sayepne serai gen umat-umat (kulo) awie udi, coa ade gen keme da coa tinget agok didik neak lem kitep, sudo-o gen tuhan ba si kenopoa.
- وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ ﴿٣٩﴾
39. Dan tun-tun da ngike ayat-ayat keme si-o ba setiuk bisau kulo diem neak kelem, api da kemlok Allah (limeu) paset
- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَنُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ

- senarone, dan api da kenlok Allah (da nelie petun(j)uk) paset si-o ba neak dalen da lu-us.
- مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ تَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٨﴾
40. Kadeak ba te-ang ba gen uku amen teko sikso Allah gen udi atau sapei gen udi bilai qiyamat janokah udi minoi (Tuhan) luyen kunie Allah amen udi tun-tun da benea.
- قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾
41. (Coa) tapi si-o ba plabai udi kinoi, sudo-o si muang bahayo sebab udi ndu-o gen si amen si kemlok udi kulo teming(g)a da sembeak udi semrai gen Allah.
- بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾
42. Sebenane keme bik meluak (rasul-rasul) gen tun-tun ayok udi sudo-o keme smikso si gen (tenu-un) saro ngen melarat. Buliak si kinoi ngen (Allah) samo tunduk rendeak atei.
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤١﴾
43. Jano sebab udi coa kinoei (ngen Allah) ngen tunduk rendeak dirai idong sapei sikso keme ngen si tapi atei-ne bik jijai telo, setan kulo bik kemten da baik jano da kute si kemrejo.
- فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾
44. Amen ketiko si coa minget tando da bik nelel gen si, keme kulo mukok dalen-dalen si stujau utukne sapei kironne si riang ngen jano da bik melel gen si. Keme smikso si ngen mendadak saat-o ba si diem samo nyesal.
- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٣﴾
45. Mako tun-tun da zalim-o nunuak sapei balet-ne. Kute pujai milik Allah Tuhan semesta alam.
- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾
46. Kadeak ba te-angba ngen uku amen Allah nemok peni-uknu gen ng(h)eliak nu kulo tenutup ateinu, api tuhan luiyen kunei Allah da nam melek gen ko?, keliak ba
- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ

- akuakro keme kedau kilai smayo kemliak (kemten) tando-tando (keme) sudo-o si coa dulai kulo.
47. Kadeak-ba te-ang ba ngen uku amen sapei sikso Allah ngen udi coa mendadak atau te-ang-te-ang jano ade coa-da benaso (Allah) luyen nkunei tun-tun dan zalim.
48. Coa ade luyen keme meluak rasul-rasul-o guno-ne utuk melei kabar riang ngen melei penginget apei da beimen menea da baik. Coa ade da saben ngen udi, coa (kulo) si ibo atei.
49. Tun-tun da ngike ayat-ayat keme si paset keno sikso kerno si trus kemerjo pasik.
50. Kadeak ba uku coa madeak gen udi amen kayo Allah ade ngen uku coa (kulo) uku namen da baik coa (kulo) uklu madeak gen udi amen uku awei malaikat, uku coa temotoa seluyen jano da nelei ngen uku. Kadeak ba jano kah srai tun buto ngen tun da ngeliak ? jano coa udi mekerne.
51. Kelei ba pringatan gen jano da bik tenu-un (wahyu)-o utuk tun-tun da saben da lok kenopoa ngen Tuhan-ne (neak bilai qiyamat) gidong sa'at-o si coa ade dapet petulung ngen coa ade dapet syafaat seluyen kunei Allah, buliak si takwa.
52. Jibeak ba udi ngusir tun-un da majok mujai tuhan-ne neak pueng bilai ngen neak pelbeak bilai si gidong lok madep tuhan-ne. Udi coa embin kerjone agok didik da si kemmerjo, si kulo coa embin kerjo udi agok didik, da melei udi (berhok) ngusir si, akibatne udi termasuk tun-tun da zalim.
- كَيْفَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾
- قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾
- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾
- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٠﴾
- قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٥٢﴾ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٣﴾
- وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾
- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴿٥٥﴾ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾

53. Awei-o ba keme bik ngu'ai pa-o si (tun-tun da kayo) ngen pa-o ne (tun-tun saro) buliak (tun-tun kayo-o) madeak tun-tun aweiyu ba neak antaro-te da nelei anugrah kunei Allah utuk si ? Allah madeak janokah Allah lebiak namen ngen tun-tun da bersukur (terimo kasiak) ngen Si.
- وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾
54. Amen tun-un da beimen ngen ayat-yat keme-o sapei utuk udi mako kadeak ba slamat utuk udi tuhan-nu bik tentep utuk diraine kasiak saying (Dio ba) amen api bae da saleak/menea saleak neak antaro udi kerjo kejahatan sudo-o si tubat sudo kemerjone kulo bubeak nien, mako sebeneane Allah paling mapun kulo paling saying.
- وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾
55. Awei-o ba keme tem-ang ayat-ayat qur'an (buliak namen dalen tun-tun da sholeh) kulo buliak namen dalen tun-tun da nduso.
- وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾
56. Kadeak ba sebenea ne uku temegeakne menyembeak tuhan-tuhan da udi sembeak seluyen kune Allah, kadeak ba uku coa kan temotoa seliro udi padeak saleak ba uku amen kerjo awei-o, (coa kulo) uku termasuk tun-tun da dapat petunjuk.
- قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾
57. Kadeak ba sebeneane uku (ade) neak hujjah da keten (Quran) kunei Tuhanku sedangkan udi coa percayo janokah kerjoku (utuk penu-un azab) da udi kemlok utuk gacang sapeine tentep ukum-o do-o ba hok (kelok) Allah Si tem-ang da sebeneane Si kulo melei keputusan da paling baik.
- قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٧﴾
58. Kadeakba amen sekirone ade ngen uku jano (azab sikso) da udi minoi buliak gacang sapeine paset bik senlese Allah urusan da ade antaro uku ngen udi. Allah
- قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

- kulo ba lebiak namen ngen tun-tun da zalim. 
59. Gen Allah ba kucai-kucai kutene da baik coa ade da namen seluyen Si dewek. Si kulo namen jano neak taneak daet gen neak laut kulo coa gen Si da coa namen sang(g)uak do dawen gugua Si namen (kulo), dan coa cucia do ijat neak kelem bumei baik leceak atu ke-ing, kutene bi tenulis lem kiteb bik tentep (lauh Mahfuz).
 ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ 
60. Si-o ba da semayo udi tidua neak klemen bilai Si kulo namen jano da udi kemrejo neak keak bilai, sudo-o Si gemingut udi keak bilai utuk cemukup omur (nu)da tentep. Sudo-o gen Allah ba plabai ite belek lajau Si melel namen ngen ite jano da bel-o ite kemrejo.
 ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ 
61. Si-o ba da Tuan kuaso paling lekat neak das kute-kute umat-Ne neluakne utuk udi malaikat-malaikat jemago, amen kirone sapei mati neak saleak do antaro udi si mati nemok malaikat-malaikat keme, kulo malaikat-malaikat keme coa alai gen kerjone.
 ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ۖ وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ 
62. Sudo-o si (umat Allah) nelel ngen Allah da menguasone da nien, inget ba sebab kute ukum (neak bilai-o) kelokne Si kulo ba da menea itung da paling gacang.
 ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ 
63. Kadeakba api da dapet semlumat udi kunei bencana neak daet gen neka laut da udi ndu-o gen Si ngen rendeak dirai ngen suaro da pelan (ngen madeak) sebeneane amen Si semlumat keme kunei (bencana) yo paset ba keme jijai tun da terimo kasiak.
 ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَّيْنًا أَخْبْنَا مِنْ هَذِهِ ۗ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ 
64. Kadeak ba Allah bik semlumat udi kunei
 ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ﴾

- bencana-o kunei kute kesaro sudo-o udi belek semrai Si gen da luyen. تَشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾
65. Kadeak ba Si-o ba da kuaso kemirim azab utuk udi kunei das (ulau) atau kunei beak (kekea) udi, amen Si mun(d)ok udi lem klopok klopok (da coa sepaham) neak antaro udi ade meding ganas kunei da luyen. Keliak ba Keme bik kemten tando-tando kebenea Keme gite-gite buliak udi maham(ne). قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصْرَفُ ۚ أَلَا يَتْلَوْنَ لَعْنَتَ لَعَالِهِمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾
66. Umat nu coa percayo (azab) sebenea ne azab-o ade, kadeak ba uku yo iso tun da neluak murus urusan udi. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٧﴾
67. Utuk tiep-tiep brita (da nembin oleh rasul-rasul) ade (waktau) kejijaine konyo udi paset namen. لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
68. Amen udi kemliak tun-tun main-main ngen ayat-ayat Keme, sudo-o ting(g)a ba si sapei miling da kecek da luyen. Amen setan menea udi coa tinget (da coa buliak yo) sudo-o jibeak ba udi temot un(d)ok tun-tun da zalim do-o sudo tinget (da coa buliak yo). وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾
69. Coa ade tanggung jawab agok didik gen tun da takwa ngen dusone , amen awei-o (kerjo si ade ba) minget boleak si takwa. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٠﴾
70. Ting(g)a ba tun-tun da menea agamo, si awi main-main ngen beragam bae, si bik tekike ngen keriang den-nyo inget ba si ngen quran-o buliak awok coa masuk nrako, kerno ulakne dewek, coa ade da mlindung ngen melei safa'at luyen kune Allah amen si tembus ngen kute tebusan paset coa gik tenrimo kuneine, si-o ba tun-tun da termasuk nepek lem nrako kerno kerjone dewek utuk ne bik senmiyap menem kunei bioa idong gelgok وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ أَلْحِيوَةُ الدُّنْيَا ۗ وَذَكَّرَ بِهِ ۚ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۗ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلٌّ قَدَلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۗ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٧١﴾

azab da gies kerno kapiane bel-o.

وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

71. Kadaeak ba janokah ite minoi seluyen kune Allah, sesuatu da coa dapet teko gunone gen ite (coa) kulo dapet membahayo gen ite (jano) ite lok melekne moi belakang, sudo Allah melei petunjuk ngen ite, awei tun bik nelimau ngen syaitan neak sawangan da ngeri; lem gidong renyeng, si ade kuwat-kuwat da medeu moi dalen da lu-us, maroba totoa keme, kadeak ba sebeneane petunjuk Allah-o ba da benea, petunjuk ite meluak semrak dirai ngen Tuhan kute-kute alam.
- قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أُنْتَنَا ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾
72. Boliak temgok semyang ngen takwa gen-Si. Si-o ba Tuhan ngen Si-ba udi lok kemopoa.
- وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۗ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿٧٢﴾
73. Si-o ba da menea lenget ngen bumei da benea, benea kulo kecekne neak waktau Si madeak jijai-ba lajau jijai nien. Neak tangen-Ne-o ba kute kuaso neak waktau trupet teniup. Si namen da gaib ngen da nam kemliak, Si-o ba da paling adea ngen paling namen.
- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۗ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمَلَكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۗ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾
74. Inget ba neak waktau Ibrahim miling ngen bakne;Azar, cocok coa udi menea patung-patung utuk tuhan-tuhan, sebeneane uku kemliak kumu ngen kaum kumu neak lem dalem da saleak.
- ﴿٧٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ۖ آزرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلْهَيْهَاتَ ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾
75. Awi-o ba keme kemten ngen Ibrahim tando-tando keagungan (keme) da dapet neak lenget ngen bumei (keme kemten) boliak Ibrahim-o termasuk tun-tun da yakin (percayo).
- وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾
76. Gidong klemen bik kelem, si kemliak do bitang (lajau) si madeak dio-ba tuhan ku, tapi sa'at bitang-o ten(d)em si madeak
- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾

uku coa tujau ngen da ten(d)em.

77. Sudo-o si kemliak bulen tim(b)oa si madeak dio-ba tuhan ku tapi sudo bulen-o ten(d)em si madeak sebenea ne amen tuhan-o melei petunjuk ngen uku paset-ba uku da termasuk tun-tun da saleak (limau).
 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ^ط
 قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
 الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾
78. Sudo-o gidong si kemliak matai bilai tim(b)oa si madeak dio-ba tuhan ku, dio-ba da lebiak lai. Sa'at matai bilai-o ten(d)em si madeak hoi umatku sebeneane diraiiku coa keno kunei jano da udi semrai.
 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا
 أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
 تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾
79. Sebeneane uku madep awok-ku ngen tuhan da menea lenget ngen bumei gen tunduk agamo da benea, uku coa termasuk tun-tun da semrai da luyen ngen Tuhan.
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾
80. Si nglawen kaumne , si madeak jano udi lok mlawen uku masalah Tuhan, sebeneane Allah bik melei petunjuk ngen uku uku coa saben ngen (nacam kunei) sembeak-sembeak udi semrai ngen Allah, tapi amen tuhan-ku kemlok jano bae kune bahayo-o, pengetahuan Tuhanku mliput kute-kutene mako janokah udi co dapet mok pelajaran(kunei-ne).
 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ^ع قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ
 هَدَانِي^ع وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن
 يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا^ط وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا^ط
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾
81. Akuakro uku saben ngen da udi sembeak-sembeak udi semrai(ngen Allah) padahal udi coa saben nduwai Allah ngen sembeak-sembeak sedangkan Allah coa temu-un alasan(hujjah)ngen udi utuk semrai ngen da luyen. Mako da ipe antaro duai klopok da lebiak berhok dapet slamat(kunei bahayo) amen udi namen.
 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ
 أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ
 سُلْطَانًا^ع فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ^ط إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾
82. Tun-tun da beimen coa senapua imenne ngen zalim (duai Tuhan) si-o ba da dapet keslamatan si kulo da dapet petunjuk.
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ

- لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٦﴾
83. Do-o ba Hujjah keme da keme melei ngen Ibrahim utuk madep umatne keme maket apei da keme kemlok derajat da dau. Sebeneane Tuhan udi paling adea ngen paling namen.
- وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٧﴾
84. Keme bik melei Ishaq ngen Yakub utuk ne ngen keduai-o dewek-dewek bik mlei keme petunjuk ngen Nuh ayok-o kulo bik nelel (kulo) petunjuk. Kulo ngen pa-o keturunan-ne (Nuh) dio ba Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa ngen Harun, awei-o ba keme mlei bales ngen tun-tun da kerjone baik.
- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٨﴾
85. Zakaria, Yahya, Isa ngen Ilyas, kutene termasuk tun-tun da soleh (beimen).
- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٩﴾
86. Isma'il, Ilyasa, Yunus ngen Luth dewek-dewek keme melbiak derajatne neak das ummat (neak masone).
- وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾
87. (Kulo keme melbeak derajat) pa-o bak-bakne anak kepaune ngen sepasuakne, keme kulo bik miliakne (utuk ijai nebai-nebai ngen rasul), Keme kulo bik temunjuk si moi dalen da lu-us.
- وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٩١﴾
88. Do-o ba petunjuk Allah ngen —o ba Si nelel petunjuk ngen api Si da kemlokne neak antro umat-umat-Ne, sekirone si nduwai Allah paset cigaiba kune-ne pahalo da bik si kemrejo.
- ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾
89. Si-o ba da tun-tun bik keme melei gen si kiteb-kiteb ngen hikmat (maham agamo) ngen kenabian-ne amen tun-tun (Quraisy)o mukir (coa percayo) da kedau mecemne mako sebenea-ne Keme lok
- هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ۚ فَاذْكُرْنَ ۚ وَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ عَلَّمْتَ الْقُرْآنَ فَذَكِّرْنَ ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۚ فَانصُرْ مَن يَنصُرُكَ ۚ وَنُصْرَةُ اللَّهِ هِيَ الْكَبِيرَةُ ﴿٩٣﴾
- هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ۚ فَاذْكُرْنَ ۚ وَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ عَلَّمْتَ الْقُرْآنَ فَذَكِّرْنَ ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۚ فَانصُرْ مَن يَنصُرُكَ ۚ وَنُصْرَةُ اللَّهِ هِيَ الْكَبِيرَةُ ﴿٩٤﴾

semreak ngen kaum da coa mukin lok muker (ngike).

90. Si-o ba da tun-tun da bik nelei Allah petunjuk mako totoa ba petunjuk-o, kadeak ba uku coa minoi upeak ngen si lem semapei (Quran), Quran-o coa ade luyen kune minget utuk kute umat.
- أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنَهُمْ أَقْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾
91. Dan si coa hormat ngen Allah, ngen hormat da sepatutne gidong si madeak Allah coakan melei jano bae ngen manusio, kadeak baa pi da tenu-un kiteb (taurat) da nembin Musa utuk cahayo ngen petunjuk utuk manusio. Udi menea kiteb-o delembea kertas da sirok-sirok udi semayo kemliak (pa-one) udi kulo munyin pa-o da agok dau awok bik najea ngen udi jano da udi ngen bapok-bapok udi coa namen. Kadeakba Allah (da temu-unne) sudo-o (sudo udi semapei quran ngen si) Kunau-ba si main-main lem kesalak-ne.
- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾
92. Dan dio (quran) dio-ba kiteb bik sudo Keme tenu-unne suatu berkah da muruak kiteb-kiteb da tu-un ayok-o. Boliak udi melei inget ngen (tun) Umul qura (mekeak) ngen tun-tun da luwea paok-o (sekitarne), tuntun da beimen ngen ade ne kehidupan akhirat paset beimen ngen si (quran) si kulo terus njago semyangne.
- وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾
93. Dan apei si lebiak zalim kune tun da menea ngike (coa pecayo) ngen Allah atau da madeak bik tenu-un wahyu ngen uku padahal coa ade wahyu agok didikpun ngen si, tun da madeak uku lok temu-un awei jano da tenu-un Allah. Jano padeak kegis amen udi kemliak neak waktau tun-tun da zalim (ade) lem ayok matei malaikat kulo moko-a ngen tangen-tangen-ne (samo madeak) kenluaba nyabainu neak bilaiyo udi nales ngen sikso da paling terhino, kerno udi terus madeak
- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

gen Allah da coa benea (kerno)udi terus mom(b)ong awok (dirai) ngen ayat-ayat-Ne.

الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٢﴾

94. Sebenea-ne udi teko ngen Keme dewek-dewek awei udi Keme menea awei bel-o udi teming(g)a neak belakangnu (neak dunnyo) jano da bik Keme melei ngen ko. Keme kulo coa kemliak berpokne da nelei syafa'at; da udi mang(g)ep si-o klopok-klopok tuhan neak antaro udi padeak bik putus (hubungan) antaro udi kulo bik laput antaro udi jano da bel-o udi mang(g)ep (semrai Allah ngen da luyen).

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ

مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ

شُرَكَؤُا ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

95. Sebeneane Allah midup soa pun-pun ngen ijat buah-buak, Si kemluak da idup kune da matei kemluwea da mate kune da idup(daade sifet-sifet) awei-o Allah, mako genati udi masiak coa dulai.

﴿٩٥﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ

فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

96. Si bik menea pueng sapei menea kelmen utuk istirahat, (menea) matai bilai ngen bulen utuk peduman (mitung) do-o ba tentep Allah da paling kuwet ngen da paling lebiak namen.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

97. Sikulo da menea bitang-bitang utuk udi, buliak udi meneak-ne petunjuk lem kelem neak daet ngen neak laut, sebenea-ne Keme bik melei namen tando-tando kelaei Keme ngen tun-tun da lebiak namen.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي

ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

98. Si oba meneak udi kunei so-ang dirai mako (udi) ade plabai tep ngen plabai maik. Sebenea-ne bik sudo Keme jemlas tando-tando kelaei Keme utuk tun-tun da namen.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ

وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

﴿٩٨﴾

99. Si-o ba temu-un bioa ujen kunei lenget, lajau Keme midup ngen bioa-o mecem pun-pun mako Keme kemlua kunei pun-pun-o tanem da ijo nien, Keme kemlua kunei tanem da ijo-o soa da dau; kunei mayang kermo tukok dan-dan buak da terguroi, kebun-kebun anggur (Keme kemlua kulo) zaitun ngen delima da serai ngen da coa serai , keliak ba buak-ne sa'at pun-ne idong bebuak. (Keliak kulo) mesokne, sebenea ne da awei-o ade tando-tando (kelai Allah) utuk tun-tun da beimen.
- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾
100. Udi (tun-tun musyrik) mang(g)ep jin kuat gen Allah padahal Allah ba da menea jin-jin-o . Si kulo ngike (madeak) Allah ade anak semanei ngen selawei ngen coa bedasar ilmau, paling sucai Allah ngen paling lekat kunei sifet-sifet da si melei.
- وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١١٢﴾
101. Si meneak lenget ngen bumaei gen akuak si ade anak sedangkan Si coa ade ngenyan, Si menea kute-kutene, Si namem kute-kutene.
- بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۢى يَكُوۡنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمۡ تَكُنۡ لَهُۥ صٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيۡمٌ ﴿١١٣﴾
102. (Da ade sifet-sifet) awei-o ba, Si-o Allah Tuhan udi, coa ade tuhan (da patut sembeak) seluyen Si da menea kute-kutene sembeakba Si, Si-o ba da meliharo kute-kute-ne.
- ذٰلِكُمۡ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعۡبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيۡلٌ ﴿١١٤﴾
103. Si coa dapet kemliak ngen matai, sedangkan Si dapet kemliak kute keliak-o Sikulo da paling alus ngen paling lebiak namen.
- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبۡصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبۡصَرَ وَهُوَ الْاَلۡطِيفُ الْخَبِيۡرُ ﴿١١٥﴾
104. Sebenea ne bik sapei kunei Tuhan-nu tando-tando da te-ang, mako api da
- قَدۡ جَآءَكُمۡ بَصٰٓئِرٌ مِّنۡ رَبِّكُمْ فَمَنۡ اَبۡصَرَ ﴿١١٦﴾

- kemliak (kebenea-o) mako (gunone) utuk awokne dewek. Api da buto (coa kemliak kebenea-o/ mako kidekne belek ngen si dewek. Uku (Muhammad) iso si ba meliaro (udi).
105. Awei-o ba keme mulang-mulang ayat-ayat keme boliak (tun-tun da beimen dapet petunjuk) da sebab tun-tun rusyrik madeak: udi bik belajea ayat-ayat-o (kune ahli kiteb) buliak keme jemlas quran o utuk tun-tun da namen.
106. do-o ba jano da sudo tenu-un wahyu ngen udi kunei tuhan udi. Coa ade tuhan seluyen Si. Jibeak dulai kunei tun-tun musrik
107. Amen Allah kemlok, paset udi coa semrai ngen-Si, Keme coa menea udi meliharo kunei udi. Udi agok debat coakan meliharo utuk udi.
108. Jibeak ba udi menghino da si sembeak seluyen Allah, kerno si menghino Allah melapau batas tanpa ilmu awei-o ba Keme menea tiep umat mang(g)ep baik ulak udi. Sudo-o ngen tuhan udi udi belek lajau Si melei namen ngen udi jano da bel-o udi kemerjo.
109. Udi besupeak ngen gen Allah ngen kute kesungguhan, amen sebenea-ne amen teko ngen udi suatu mu'jizat pasetba udi beimen ngenSi, kadeak ba sebeneane mu'jizat-mu'jizat-o ade neak sisi Allah janokah da melei namen ngen udi amen mu'jizat teko udi coakan beimen.
- فَلَنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمَىٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٤﴾
- وَكَذَٰلِكَ نُنصِرُ الْأَيْتِ وَيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَنُنَبِّئَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾
- أَتَّبِعَ مَا أُوحِيَٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦﴾
- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧﴾
- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَٰلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ ۚ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾
- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ ۖ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

110. (Awi-o kulo) Keme mutea atei ngen ngeliak-ne awei si ati pernah beimen ngen quran pado mulone Keme munyau si bekubang lem kesaleak ne da niyen.

وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾